



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

اسفالٹر (سڑک کی تعمیر) ماہرانہ درجے کا ٹریڈ ٹیسٹ موک پریکٹیکل ٹیسٹ پیپر

此文件關於瀝青工(道路建造)大工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of skilled trade test for Asphalter (Road Construction). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹر میں کی جا سکتی ہے۔

95, Yue Kwong Road 95, یو کونگ روڈ
Aberdeen آبرڈین
Hong Kong ہانگ کانگ

ٹیلی فون: (852) 2100 9000
فیکس : (852) 2100 9090
ای میل : enquiry@cic.hk
ویب سائٹ : www.cic.hk

© 2020 تعمیراتی صنعتی کاؤنسل.

ٹریڈ ٹیسٹ پیپر

ٹریڈ: اسفالٹر (سڑک کی تعمیر)

گریڈ: ہنرمند کاریگر

امتحانی مواد: منسلک ڈرائنگ کے مطابق، نامزد شدہ مقام پر مندرجہ ذیل کام کی تکمیل کیجئے:

1. دھات کے چوکھٹے میں اسفالٹ کنکریٹ کی تعمیر کی تکمیل کیجئے (ڈرائنگ نمبر 1 کا حوالہ لیں)، کام میں شامل ہے :-


- (i) تھر تھری پلیٹ کے ساتھ سڑک کی اصلی بنیاد کو ہموار کریں۔
- (ii) اسفالٹ کنکریٹ کو بچھانے کے لئے تیار کردہ رقبے پر نفت پریمیا کا چھڑکاؤ کریں۔
- (iii) اسفالٹ کے سامان کے درجہ حرارت کا جائزہ لیں اور رپورٹ کریں۔
- (iv) 1st بنیادی کورس کو بچھائیں اور ہموار کریں۔
- (v) سطح کے نشان کو دیکھتے ہوئے، 1st بنیادی کورس کے اوپر 50 ملی میٹر موتی تہہ کو بچھائیں اور ہموار کریں۔
- (vi) نامزد شدہ مقام پر، کٹائی والی مشین کے ذریعے، اسفالٹ کنکریٹ تعمیر کی سطح پر 2 میٹر لمبے جوڑے کو کاٹیں۔
- (vii) ٹیسٹ کی تکمیل کے بعد رقبے کی صفائی کیجئے۔

دورانیہ: 3 گھنٹے (بشمول گریہستی کام)


نوٹ: (1) امتحان کے دوران اگر کوئی امیدوار حفاظتی احتیاطی تدابیر نہیں لیتا تو اس کو ناکام قرار دیا جائے گا؛

(2) سوال 3 صفحات پر مشتمل ہے۔ کل نمبر 100 ہیں۔ کامیاب ہونے کے لئے 60 نمبر درکار ہیں۔

ڈرائنگ نمبر 1



پلان منظر



سیکشنل منظر 'A' - 'A'

ڈرائنگ پیمائش کرنے کے لیے نہیں
تمام طول و عرض ملی میٹر میں ہے

نوٹس برائے امیدوار:

1. امیدواروں کو امتحانی پرچے بغور پڑھنے چاہئیں اور کسی سوال کی صورت میں ممتحن سے رابطہ کرنا چاہیے۔
2. امیدواروں کو امتحان شروع ہونے سے قبل امتحانی پرچے سے منسلک خاکوں اور تخصیصات، اگر کوئی ہوں، کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
3. امیدواروں کو فراہم کردہ امتحانی پرچوں، عملی خاکوں اور تخصیصات کے مطابق امتحان دینا چاہیے۔
4. امیدواروں کو اپنے ذاتی حفاظتی جوتے لانے ہوں گے، دیگر حفاظتی سازوسامان پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے۔ امیدواروں کو با حفاظت کام کی انجام دہی کے لیے تمام ضروری حفاظتی تدابیر لازماً اختیار کرنا ہوں گی۔
5. امتحان کے لیے درکار تمام آلات اور سازوسامان پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے، امیدواروں کو ان کی موزونیت اور معیار کی جانچ کر لینی چاہیے۔ امیدواروں کو آلات اور سازوسامان مجوزہ پیشہ ورانہ طریقہ کار کے مطابق درست طور پر استعمال کرنا ہوں گے۔ امتحان کے بعد تمام آلات کو لازماً پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کو واپس کرنا ہوگا۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں امیدوار ممتحن سے پوچھ سکتے ہیں۔
6. امیدواروں کو امتحان میں استعمال کرنے اور متعلقہ افعال انجام دینے کے لیے آلات اور سازوسامان کو برتنا اور اٹھا کر لانا لے جانا ہوگا۔
7. ممتحن، امتحان کے دوران وقفے وقفے سے بطور ریکارڈ تصاویر لے گا۔
8. امیدواروں کو کیمرے یا موبائل فون کے ساتھ کوئی تصویر یا ویڈیو لینے کی اجازت نہیں ہے۔
9. ہنگامی صورتحال کے علاوہ، امتحان کے دوران امیدواروں کو اپنے موبائل فون کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
10. اسکور دیے جانے کا عمل درج ذیل معیارات پر مبنی ہوگا:

- a. خاکے اور تخصیص کو سمجھنا
- b. امتحان شروع کرنے سے قبل کاموں کی تیاری
- c. کام کی انجام دہی کے طریق کار
- d. کاموں کی درستگی اور معیار
- e. کاموں میں پیش رفت
- f. سازوسامان کو درست انداز میں برتنا اور استعمال کرنا
- g. آلات اور سازوسامان کا درست استعمال
- h. حفاظتی تدابیر
- i. دیگر پیشہ ورانہ مہارتوں کو پیش نظر رکھنا
- j. امتحان مکمل ہونے کے بعد جگہ کی صفائی

11. مقررہ وقت ختم ہونے پر تمام امیدواروں کو لازماً کام روک دینا ہوگا۔

12. امتحان کے بعد امیدواروں کو امتحانی پرچہ ممتحن کے حوالے کرنا ہوگا۔

13. ممتحن کو رشوت کی پیشکش کرنا قانونی جرم ہے اور ایسی صورت میں پیشہ ورانہ مہارت کا امتحانی مرکز ICAC کو مطلع کرے گا۔

اگر امیدوار حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہا اور / یا خطرناک صورتحال میں کام کیا، تو اسے فیل قرار دے دیا جائے گا۔